


Assembly Instruction

Easy Installation

D.I.Y

WARNING! PLEASE PLACE ALL THE PRODUCTS AT ROOM TEMPERATURE AND DO NOT EXPOSE BIDET ATTACHMENT AND ACCESSORIES TO TEMPERATURES BELOW 32 DEGREES FAHRENHEIT.

1. PART LIST




2. INSTALLATION

PREPARATION

A. Remove the existing toilet seat.
C.Flush toilet to drain tank completely.


B.Turn off the water valve.
D.Take out exiting water pipe.



! HELPFUL TIP:


Over tightening flexible hoses adaptor can cause damage to the threads and result in water leakage. Use only hand pressure first and check for any leakage. Turn only less than quarter turn at a time making sure there is no leakage.

3. FINAL ASSEMBLY



TROUBLE SHOOTING

Twin Nozzle System



If your spray outlet hole is clogged for some reason, simply try to move spray outlet up and down for a few times manually.

Congratulations! You are now ready to use your THE Bidet Attachment. Be sure to slowly turn pressure control knob until you reach the desired pressure. The water pressure control device is to be used only to control water pressure, not to set up the duration of the water spray.


Asamblea/ Instrucción

Fácil instalación

bricolaje

¡ADVERTENCIA! POR FAVOR, COLOQUE TODOS LOS PRODUCTOS A TEMPERATURA AMBIENTE Y NO EXPONGA EL BIDÉ Y LOS ACCESORIOS A TEMPERATURAS ABAJO DE 32 GRADOS FAHRENHEIT


1. LISTA DE PARTES



2. INSTALACIÓN

PREPARACIÓN

- A. Retire el asiento del inodoro existente.
- B. Cierre la válvula de agua.
- C. Descargue el inodoro para drenar completamente el tanque.
- D. Saque la tubería de agua que sale



A. Conjunto de bidé

B. Instalación de agua caliente


C. Instalación de agua fría



CONSEJO ÚTIL:

Apretar demasiado el adaptador de mangueras flexibles puede dañar las roscas y provocar fugas de agua. Primero use solo presión manual y verifique si hay fugas. Gire sólo menos de un cuarto de vuelta a la vez, asegurándose de que no haya fugas.


3. MONTAJE FINAL



¡Felicitaciones! Ahora está listo para usar. Su bidet. Asegúrese de girar lentamente la perilla de control de presión hasta que alcance la presión deseada. El control de presión del agua. El dispositivo debe utilizarse únicamente para controlar la presión del agua, no para ajustar la duración del rociado de agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sistema de boquilla doble



Si el orificio de salida del rociador está obstruido por algún motivo, simplemente intente mover la salida del rociador hacia arriba y hacia abajo durante un rato.

pocas veces manualmente


Montage / Anweisung

Einfache Installation

D.I.Y

WARNUNG! BITTE ALLE PRODUKTE BEI RAUMTEMPERATUR LAGERND BEWAHREN UND DEN BIDET-ANSCHLUSS UND DAS ZUBEHÖR KEINEN TEMPERATUREN AUSSETZEN UNTER 0 GRAD CELSIUS


1. TEILELISTE



2. INSTALLATION

VORBEREITUNG

- A. Entfernen Sie den vorhandenen Toilettensitz. B. Drehen Sie den Wasserhahn zu.
C. Toilette spülen, um den Tank vollständig zu entleeren. D. Nehmen Sie die austretende Wasserleitung heraus.



A. Bidet-Montage


B. Warmwasserinstallation

C. Kaltwasserinstallation

! HILFREICHER TIPP:

Ein zu festes Anziehen des flexiblen Schlauchadapters kann zu Schäden an den Gewinden und zum Austreten von Wasser führen. Üben Sie zunächst nur Handdruck aus und prüfen Sie, ob Undichtigkeiten vorliegen. Drehen Sie jeweils nur weniger als eine Vierteldrehung und achten Sie darauf, dass kein Leck entsteht.


3. ENDMONTAGE



Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt loslegen. Ihre THE Bidet-Aufsatz. Drehen Sie den Druckregler langsam, bis Sie den gewünschten Druck erreicht haben. Die Steuerung des Wasserdrucks. Das Gerät darf nur zur Steuerung des Wasserdrucks verwendet werden, nicht zur Einstellung der Dauer des Wasserstrahls.

FEHLERBEHEBUNG

Doppeldüsen-System



Wenn Ihr Sprühauslass aus irgendeinem Grund verstopft ist, versuchen Sie einfach, den Sprühauslass eine Weile auf und ab zu bewegen.

einige Male manuell


AssembléInstruction

Installation facile

DIY

ATTENTION ! Veuillez placer tous les produits à température ambiante et ne pas exposer l'accessoire de bidet et les accessoires à des températures EN DESSOUS DE 0 DEGRÉ CELSIUS

1. LISTE DES PIÈCES




2. INSTALLATION

PRÉPARATION


- A. Retirez le siège des toilettes existant.
C. Chasser la chasse d'eau pour vider complètement le réservoir

- B. Fermez le robinet
D. Retirez le tuyau d'eau sortant



! CONSEIL UTILE : Un serrage excessif de l'adaptateur de tuyaux flexibles peut endommager les filetages et entraîner des fuites d'eau. Utilisez d'abord uniquement la pression de la main et vérifiez toute fuite. Tournez seulement moins d'un quart de tour à la fois en vous assurant qu'il n'y a pas de fuite

3. ASSEMBLAGE FINAL




Félicitations ! Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre ACCESSOIRE DE BIDET. Assurez-vous de tourner lentement le bouton de réglage de la pression jusqu'à ce que vous atteigniez la pression souhaitée. Le contrôle de la pression de l'eau

L'appareil doit être utilisé uniquement pour contrôler la pression de l'eau, et non pour régler la durée de la pulvérisation d'eau.

DÉPANNAGE

Système à double buse



Si le trou de sortie de pulvérisation est bouché pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer la sortie de pulvérisation de haut en bas pendant un certain temps.

quelques fois manuellement

組み立て / 命令


簡単インストール

DIY

警告！すべての製品は室温で保管してください。ビデ付属装置および付属品を高温にさらさないでください。
華氏32度以下


1. 部品リスト

部品



シート(シートフック)結合穴
本体
スライディングノズル
ビデ(女性用)
ウォッシュ
熱湯入口
冷水入口
温度コントロールノブ
水圧コントロールノブ
ノズル選択コントロールノブ

アダプタ



または
または
アダプタ
チューブ
フレキシブルホース

必要なインストールツール



レンチ
テフロンテープ
ドライバー(マイナス)


白いホースを取り付けるときは、必要な長さに応じて2つに切断します。

2. インストール


- 準備
- A. 既存の便座を取り外します。
 - B. 給水バルブを閉めます
 - C. トイレを水洗してタンクを完全に排水します
 - D. 出ている水道管を取り出す



A. ビデの組み立て



B. 給湯設備




C. 冷水設備

お湯アダプタ
洗面器
フレキシブルホース
温水バルブ
冷水アダプタ

！ 役立つヒント： フレキシブルホースアダプターを締めすぎると、ネジ山が損傷し、水漏れが発生する可能性があります。最初は手で圧力かけるだけに、漏れがないか確認してください。漏れがないことを確認しながら、一度に4分の1回転未満だけ回転させます


3. 最終組み立て



温水アダプター
フレキシブルホース
温水チューブ
冷水アダプタ
冷水バルブ
温水バルブ
水タンク
トイレ
シート
スツール

おめでとうございます！これで準備が整いました
あなたのTHEビデアタッチメント。希望の水圧になるまで、水圧調節つまみをゆっくり回してください。水圧調節

トラブルシューティング
ツインノズルシステム



ビデ(女性向け) ウォッシュ 手動で数回

何らかの原因でスプレー出口の穴が詰まっている場合は、スプレー出口を少しの間上下に動かしてみてください。

デバイスは散水時間の調整ではなく、水圧の制御にのみ使用されます。


Assemblaggio istruzioni

Installazione facile

FAI DA TE

ATTENZIONE! SI PREGA DI CONSERVARE TUTTI I PRODOTTI A TEMPERATURA AMBIENTE E DI NON ESPORRE IL BIDET E GLI ACCESSORI A TEMPERATURE SOTTO I 32 GRADI FAHRENHEIT


1. ELENCO DELLE PARTI



2. INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE

- A. Rimuovere il sedile del WC esistente.
B. Chiudere la valvola dell'acqua
C. WC con sciacquone per svuotare completamente il serbatoio
D. Estrarre il tubo dell'acqua in uscita




A. Montaggio del bidet B. Installazione dell'acqua calda C. Installazione dell'acqua fredda




Un serraggio eccessivo dell'adattatore dei tubi flessibili può causare danni alle filettature e provocare perdite d'acqua. Utilizzare prima solo la pressione manuale e verificare eventuali perdite. Girare solo meno di un quarto di giro alla volta assicurandosi che non vi siano perdite.

3. ASSEMBLAGGIO FINALE



Congratulazioni! Ora sei pronto per l'uso il TUO accessorio bidet. Assicurati di ruotare lentamente la manopola di controllo della pressione fino a raggiungere la pressione desiderata. Il controllo della pressione dell'acqua. Il dispositivo deve essere utilizzato solo per controllare la pressione dell'acqua, non per impostare la durata dell'irrorazione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Sistema a doppio ugello
Se per qualche motivo il foro di uscita dello spray è ostruito, prova semplicemente a spostare l'uscita dello spray su e giù per un po' alcune volte manualmente


집회 / 지침

쉬운 설치

DIY

경고! 모든 제품을 실온에 보관하고 비데
부착물과 액세서리를 고온에 노출시키지 마십시오.
화씨 32도 이하

1. 부품 목록



2. 설치


준비

A. 기존 변기 시트를 제거합니다.

C. 변기 물을 내려 탱크를 완전히 배수하세요.

B. 수도 밸브를 고십시오.

D. 기존 수도관 빼내기



A. 비데 조립

B. 온수 설비


C. 냉수 설치

! 유용한 팁:

유연한 호스 어댑터를 너무 조이면 나사산이 손상되어
물이 새는 결과를 초래할 수 있습니다.


먼저 손으로 압력전용 사용하고 누출이 있는지 확인하십시오. 누출이
없는지 확인하면서 한 번에 1/4바퀴 미전용으로전용 돌리십시오.

3. 최종 조립



문제 해결

트윈 노즐 시스템



스프레이 아웃렛 구멍이
어떤 이유로 막힌
경우, 스프레이 아웃렛을
위아래로 움직여 보세요.

수동으로 몇 번

축하드립니다! 이제 사용할 준비가
되었습니다. 원하는 압력에 도달할
때까지 압력 조절 노브를 천천히
돌려주세요. 물 압력 조절

장치는 물 분사 시간을 설정하는 것이 아니라
물 압력을 제어하는 데전용 사용해야 합니다.


hopsättninginstruktion

Enkel installation

D.I.Y

WARNING! Vänligen låt alla produkter stå i rumstemperatur och utsätt inte bidet-tillbehöret och tillbehören för extrema temperaturer. Under 32 grader Fahrenheit

1. DELLISTA




2. INSTALLATION

FÖRBEREDELSE

- A. Ta bort den befintliga toaletsitsen.
C. Spola toaletten till avloppstanken helt

- B. Stäng av vattenventilen.
D. Ta ut utgående vattenrör



Montering av bidé

B. Installation av varmvatten


C. Installation av kallt vatten

! NYTTIGT TIPS:

Överdriven åtdragning av adaptrar för flexibla slangar kan skada gängorna och leda till vattensläpp.


Använd endast handtryck först och kontrollera eventuellt läckage. Vrid bara mindre än ett kvarts varv åt gången och se till att det inte finns något läckage

3. SLUTMONTERING



FELSÖKNING

Tvillingmunstyressystem



Om sprayutloppet är blockerat av någon anledning, försök bara att flytta sprayutloppet upp och ner.

några gånger för hand

Grattis! Du är nu redo att använda din THE Bidet-fäste. Se till att långsamt vrida på tryckreglaget tills du når önskat tryck. Vattentrycksreglaget

Enheten får endast användas för att reglera vattentrycket, inte för att ställa in varaktigheten av vattensprutningen.


Shromáždění a instalace

Lehká instalace

D.I.Y

UPOZORNĚNÍ! VŠECHNY PRODUKTY UMÍSTĚTE DO PROSTORU S POKOJOUO
TEPLOU A NEVYSTAVUJTE BIDÉ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPLOTÁM
POD 0 °C


1. SEZNAM DÍLŮ



2. INSTALACE

PŘÍPRAVA

- A. Odstraňte stávající záchodové prkénko.
- B. Vypněte vodní ventil
- C. Spláchněte toaletu, aby se nádrž zcela vyprázdnila
- D. Vyjměte výstupní vodovodní potrubí



A. Montáž bidetu

B. Instalace teplé vody


C. Instalace studené vody



UZMECNÝ TIP:


Prétazení adaptéru pro flexibilní hadice může poškodit závit a vést k úniku vody.
Nejprve použijte pouze tlak rukou a zkontrolujte, zda nedochází k úniku. Otáčejte vždy jen o méně než čtvrt otáčky a ujistěte se, že nedochází k úniku

3. ZÁVĚREČNÁ MONTÁŽ



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Systém s dvojitou tryskou



Pokud je z nějakého důvodu ucpaný otvor rozpráskavce, jednoduše zkuste rozpráskavce pohybovat nahoru a dolů, abyste

několikrát ruchně

Gratulujeme! Nyní jste připraveni k použití Vaše sprchová hlavice. Pomalu otáčejte knoflíkem pro regulaci tlaku, dokud nedosáhnete požadovaného tlaku. Regulace tlaku vody
Zařízení se má používat pouze k regulaci vodního tlaku, nikoli k nastavení doby trvání vodního spreje.

تعليمات / حشد



سهل التركيب

DIY



تحذير! يرجى وضع جميع المنتجات في درجة حرارة الغرفة وعدم تعريض ملحق البيديه والإكسسوارات لدرجات حرارة مرتفعة أقل من 32 درجة فهرنهايت

قائمة الأجزاء 1.

القطع




عند تركيب خرطوم أبيض ،
قم بقصه إلى جزأين اعتماداً
المطلوب X على طول




2. التثبيت

تحضير
أ. قم بإزالة مقعد المرحاض الموجود
ج. مرحاض دافق لتصريف الخزان بالكامل


ب. قم بإيقاف تشغيل صمام الماء
د. أخرج أنبوب الماء الخارج



مجموعة بيديه



ب. تركيب المياه الساخنة




تركيب المياه الباردة

نصيحة مفيدة!


الإفراط في شد محول خرطوم مرن
يمكن أن يتسبب في تلف
استخدم الضغط اليدوي فقط ولا تستخدم
أي تسرب. أدر أقل من ربع دورة فقط
في كل مرة للتأكد من عدم وجود تسرب

3. التجميع النهائي



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نظام فوهة مزدوج



إذا كان فتحة بخاخ الرش
مسدودة لسبب ما
فحاول ببساطة تحريك فتحة
الرش لأعلى ولأسفل لـ

بضع مرات يدويا

تهانينا! أنت الآن جاهز للاستخدام
ملحق البيديه الخاص بك. تأكد من تدوير
مقبض التحكم في الضغط ببطء حتى تصل
إلى الضغط المطلوب. تحكم ضغط الماء
يجب استخدام الجهاز للتحكم في ضغط الماء
فقط وليس لتحديد مدة رش الماء


Montaż / Instrukcja

Łatwa instalacja

MAJSTERKOWANIE

UWAGA! PROSZĘ UMIEŚCIĆ WSZYSTKIE PRODUKTY W TEMPERATURZE POKOJU
I NIE NARAŻAĆ NAWARZNIKI I AKCESORIÓW NA TEMPERATURY
PONIŻEJ 32 STOPNI FAHRENHEITA


1. LISTA CZĘŚCI



2. INSTALACJA

PRZYGOTOWANIE


- A. Usun istniejącą deskę sedesową.
- B. Zakręć zawór wody
- C. Spłucz toaletę, aby całkowicie opróżnić zbiornik
- D. Wyjmij wychodzącą rurę wodną



! POMOCNA WSKAZÓWK:


Zbyt mocne dokręcanie adaptera elastycznych węży może spowodować uszkodzenie gwintów i doprowadzić do wycieku wody
Najpierw użyj wyłącznie nacisku dłoni i sprawdź, czy nie ma wycieków. Obracaj tylko o mniej niż ćwierć obrotu na raz, upewniając się, że nie ma wycieków

3. KOŃCOWY MONTAŻ



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

System podwójnych dysz



Jeśli otwór wylotu rozpylacza jest zatkany z jakiegos powodu, po prostu spróbuj przesunąć wylot rozpylacza w górę i w dół, aby

kilka razy ręcznie

Gratulacje! Jesteś teraz gotowy do użycia Twój NAWARZNIK BIDE. Upewnij się, że powoli obracasz pokrętko regulacji ciśnienia, aż osiągniesz pożądane ciśnienie. Regulacja ciśnienia wody
Urządzenie służy wyłącznie do regulacji ciśnienia wody, a nie do ustawiania czasu trwania strumienia wody.

Montage / Instructie



Makkelijke installatie

D.I.Y


WAARSCHUWING! Plaats alle producten op kamertemperatuur en stel de bidetaccessoires niet bloot aan extreme temperaturen. Onder de 32 graden Fahrenheit

1. ONDERDELENLIJST

Onderdelen




Bij het installeren van de witte slang, snijd deze in 2 delen afhankelijk van de vereiste lengte. OF



2. INSTALLATIE

VOORBEREIDING

- A. Verwijder de bestaande toiletbril.
C. Spoel het toilet door om de tank volledig leeg te laten lopen
B. Draai de waterklep dicht
D. Verwijder de uitgaande waterleiding




A. Bidet Montage

B. Installatie van Warm Water C. Installatie van Koud Water

! NUTTIGE TIP:

Het te strak aandraaien van de flexibele slangenadapter kan de schroefdraad beschadigen en leiden tot waterlekage. Oefen eerst alleen handdruk uit en controleer op eventuele lekkage. Draai slechts minder dan een kwartslag per keer en zorg ervoor dat er geen lekkage is

3. EINDASSEMBLAGE




Gefeliciteerd! Je bent nu klaar om te gebruiken uw bidetbevestiging. Zorg ervoor dat u de drukregelknop langzaam draait totdat u de gewenste druk bereikt. De waterdrukregeling

Het apparaat mag alleen worden gebruikt om de waterdruk te regelen, niet om de duur van de waterspray in te stellen.

PROBLEEMOPLOSSEN

Dubbelmondstelsysteem



Als de spuitopening om de een of andere reden verstopt is, probeer dan eenvoudig de spuitopening op en neer te bewegen voor een

een paar keer handmatig